

انٹرمیڈیٹ امتحان پارٹ فرسٹ (جماعت گیارہویں)		2023 (1st-A)		450	
PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-I (COMMERCE GROUP)				پرنسپلز آف اکاؤنٹنگ پرچہ - پیلا (کارپس گروپ)	
TIME ALLOWED: 2.30 Hours		وقت = 2.30 گھنٹے		SUBJECTIVE	
MAXIMUM MARKS: 80		80 = 80		کرنر = 80	
NOTE: Write same question number and its part number on answer book, as given in the question paper.					
نوٹ: جوابی کتاب پر سوال نمبر اور اس کے حصہ کے نمبر لکھ کر تحریر کیے جائیں۔					
SECTION-I					
2. Attempt any five parts.					
10 = 2 x 5					
سوال نمبر 2 کوئی سے پانچ اجزاء کی جوابات تحریر کیجیے۔					
(i)	Define Capital.	(ii)	Define Business Transaction.	(iii)	What is called an Accounting Equation?
(iv)	Write two advantages of Journal.	(v)	What is called Balance?	(vi)	Define Cash Book.
(vii)	Define Un presented cheque.	(viii)	Define Bank Draft.		
3. Attempt any five parts.					
10 = 2 x 5					
سوال نمبر 3 کوئی سے پانچ اجزاء کی جوابات تحریر کیجیے۔					
(i)	Explain Bank Reconciliation Statement.	(ii)	What is meant by Capital expenditures with example.	(iii)	What is meant by Revenue Profit?
(iv)	Explain errors of Principle.	(v)	Define Tangible assets.	(vi)	Explain Contingent liabilities.
(vii)	What are Direct expenses?	(viii)	What is meant by accumulated depreciation?		
SECTION-II					
NOTE: Attempt any three questions.					
60 = 20 x 3					
نوٹ: کل سے تین سوالات کے جوابات لکھیں۔					
4. Journalize the following transactions of Umar traders.					
(i) Umar started his business with cash Rs.120,000. (ii) Purchased furniture for cash Rs.25,000. (iii) Purchased goods for cash Rs.35,000. (iv) Paid carriage for goods purchased Rs.500. (v) Sold goods for cash Rs.12,000 which cost Rs.9,000. (vi) Purchased goods from Hadi Rs.10,000 at 5% trade discount. (vii) Sold goods to Junaid Rs.20,000 which cost Rs.17,500. (viii) Goods of Rs.200 returned to Hadi. (ix) Goods costing Rs.1000 were distributed as free samples. (x) Paid salary Rs.6000 and rent Rs.5000.					
5. Prepare Bank Reconciliation Statement.					
(i) Balance as per bank statement Rs.1125. (ii) Cheque issued but not presented into bank of Rs.150. (iii) Bank charges debited in the pass book Rs.40. (iv) Cheque deposited but not credited by bank Rs.700. (v) Directly deposited by a customer Rs.300 into bank. (vi) Interest collected by bank Rs.200.					
6. Pass the journal entries in the books of drawer and drawee.					
On 1st January 2021, Yasir sold goods to Faisal for Rs.5,000 on credit and drew a bill of exchange on Faisal for 3 months it was accepted by Faisal and return it to Yasir on due date. Faisal honored his acceptance. Show entries in the books of Yasir and Faisal.					
7. Following informations have been taken from the books of Qasim & Brothers. Prepare trading and profit and loss account and balance sheet on December 31, 2022.					
Trail Balance					
15000	Creditors	10,000	Cash	28000	Debtors
50000	Capital	20,000	Furniture	6000	Interest
99000		99000			
Adjustments: (i) Closing stock Rs.20000. (ii) Wages prepaid Rs.1000 (iii) Depreciation on furniture 10% (iv) Outstanding rent Rs.2000					
8. State with reasons whether following items are capital expenditure or revenue expenditure.					
(i) Purchase of patent rights. (ii) Purchase of raw material. (iii) Legal expenses paid on the issuance of shares. (iv) Repair and maintenance expenses on plant. (v) Freight paid on purchase of goods. (vi) Payment of salaries of staff. (vii) Commission paid to property dealer for purchase of land. (viii) Purchase of trade mark. (ix) Custom duty paid on import of plant and machinery. (x) Payment of damages for violation of trade mark.					
9. Rectify the following errors.					
(i) Payment of rent expense Rs.4500 wrongly debited to repair account. (ii) Stationery purchased for Rs.800 wrongly debited to drawings account. (iii) Collection of cash Rs.1000 from Rashid was omitted to be recorded. (iv) Wages Rs.10,000 paid for installation of plant wrongly debited to wages account. (v) Sales book has been under-cast by Rs.1200. (vi) Purchase book has been under-cast by Rs.2000. (vii) Repair to building Rs.7000 charged to building account. (viii) Debtors account was under-cast by Rs.5000.					

Paper Code	2023 (1st-A)			450	رول نمبر
Number: 2701	(جماعت گیارہویں)			انٹرمیڈیٹ امتحان پارت فرسٹ	
PRINCIPLES OF ACCOUNTING PAPER-I (COMMERCE GROUP) (پہلا (کامرس گروپ)					
TIME ALLOWED: 30 Minutes وقت = 30 منٹ		OBJECTIVE معروضی	MAXIMUM MARKS: 20 20 = کل نمبر		
سوال نمبر 1۔ ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ چاروں کا اپنی ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق حلقہ دائرہ لگا کر یا چننے سے भर دیجئے۔ Q.No.1 You have four choices for each objective type question as A, B, C and D. The choice which you think is correct, fill that bubble in front of that question number, on bubble sheet. Use marker or pen to fill the bubbles. Cutting or filling two or more bubbles will result in zero mark in that question.					
D	C	B	A	Questions / سوالات	Sr.No.
Dual aspect concept دوہرے پہلوؤں کا تصور	Cost concept لاگت کا تصور	Realization concept حقیقت کا تصور	Money measurement concept پیسے کی پیمائش کا تصور	According to concept an Asset is recorded at a price at which it is acquired? حصول ہونے والی قیمت کی قیمت کے مطابق ہے؟	1
Employee ملازم	Manager منیجر	Proprietorship ملکیت	Agent ایجنٹ	Owner of the business is called: کاروبار کا مالک کہا جاتا ہے۔	2
Capital account سرمایہ کی اکاؤنٹ	Debtors for asset account اسات کے لئے قرضہ دار اکاؤنٹ	Asset account کامات کی اکاؤنٹ	Debtors account کھاتہ قرضہ دار	Asset sold on credit should be debited to: اور قرضہ دار کے لئے اکاؤنٹ کس کھاتہ میں ڈیبتہ ہوتے؟	3
Debts and receipts قرض اور وصولیاں	Customers, creditors گاہک۔ قرض خواہ	Assets and liabilities اسات اور ذمہ داریاں	Expense, losses and income خرچہ، نقصان اور آمد	Nominal account related to _____ نمبری اکاؤنٹ سے متعلق ہے۔	4
Intangible assets غیر مرئی اسات	Fictitious assets غیر حقیقی اسات	Fixed assets مستقل اسات	Current assets موجودہ اسات	Furniture and machinery represents: فرنیچر اور مشینیں کیا ظاہر کرتی ہیں۔	5
Subsidiary book سہ پڑتی کتاب	Both A and B A اور B دونوں	First book of entry پہلی کتاب انٹری	Day book روزنامہ	Journal is also called _____ جرنل بھی کہا جاتا ہے۔	6
Three columns تین کالم	Four columns چار کالم	Five columns پانچ کالم	Six columns چھ کالم	In a journal there are _____ ایک جرنل میں _____ ہوتے ہیں۔	7
None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں	Balances میلنس	Vouchers واچرز	Accounts کھاتہ جات	Ledger is called a set of _____ لیجر کا ایک سیٹ کہا جاتا ہے۔	8
Endorse جس کوئی ایسی ادائیگی کا حتم ہو	Bank بینک	Drawee مطلوبہ کرنے والا	Drawer میل لکھنے والا	When a bill is dishonoured acceptor's account is debited in the books of: کیا سٹور شدہ مل کی صورت میں قبول کرنے والے کے کھاتہ میں ڈیبتہ ہوتا ہے؟	9
None of these ان میں سے کوئی بھی نہیں	Personal account ذاتی کھاتہ	Nominal account نمبری کھاتہ	Real account حقیقی کھاتہ	Bill payable account is a: قابل ادائیگی مل کا کھاتہ ہے۔	10
Both A and B A اور B دونوں	Personal account ذاتی کھاتہ	Nominal account نمبری کھاتہ	Real account حقیقی کھاتہ	Cash account is: نقدی کھاتہ ہوتا ہے۔	11
Customer's accountant گاہک کا حساب کرنے والا	Manager منیجر	Banker بینکار	Auditor پڑتال کنندہ	Bank reconciliation statement is prepared by: گنوارو بینک تطبیقی نو کرتا ہے۔	12
Profit and loss account نفع و نقصان کا کھاتہ	Trading account تجارتی کھاتہ	Cash flow statement گنوارو نقدی	Balance sheet بیلنس شیٹ	All the direct expenses charged to the: تمام براہ راست اخراجات لگے جاتے ہیں۔	13
Intangible asset غیر مرئی اسات	Fixed asset مستقل اسات	Current asset موجودہ اسات	Quick asset نوری سپید اسات	Stock in trade is called: تجارتی ذخیرہ کہا جاتا ہے۔	14
Bad debts بے سند قرضے	Doubtful debts مشکوہ قرضہ جات	Loan قرضہ	Provision for doubtful debts مشکوہ وصولی پر ذخیرہ	The uncertain debts are called: غیر یقینی ادوار قرض کو کہتے ہیں۔	15
Doubtful debts اپہرے قرضے جن پر شبہ ظاہر ہو	Allowances الوانسز	Debts مشکوہ قرضے	Loan قرضہ	The amount become due from the customer is known as: گاہک سے جو رقم وصول کرنی ہوتی ہے کہاتی ہے۔	16
Trading account تجارتی کھاتہ	Trading profit and loss account تجارتی منافع اور نقصان کا کھاتہ	Balance sheet بیلنس شیٹ	Profit or loss account نفع و نقصان کا کھاتہ	All revenue expenditures are taken to: تمام نمائی اخراجات لئے جاتے ہیں۔	17
Revenue expenditures نمایائی اخراجات	Revenue loss نمایائی نقصان	Capital loss سرمایہ کی نقصان	Capital expenditures سرمایہ کی اخراجات	Repairs of machinery is: مشینری کی مرمت ہوتی ہے۔	18
Compensating errors تعمداتی غلطیاں	Errors of commission غلطیوں پر مبنی غلطیاں	Errors of omission غلطیوں کی غلطی	Errors of principles اصولی غلطیاں	The most common errors are called: مشترکہ غلطیوں کو کہتے ہیں۔	19
All of these یہ تمام	Errors of omission چھوڑنے پر غلطیاں	Errors of commission غلطیوں پر مبنی غلطیاں	Errors of principles اصولی غلطیاں	Wages paid for the purpose of erection of a machine, wages account is debited: ایجنٹوں کی مشینیں کو کھڑا کرنے کے مقصد کے لئے اور انجنیئرز کے کھاتہ کو کھڑا کیا۔	20